

روزے میں کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے بارے میں فتویٰ
الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا غسل فرض میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا یعنی کلی میں حلق تک اور ناک میں اوپر تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ایسا ہے تو روزے میں کیا کرنا ہوگا۔ اگر پانی پیٹ یا دماغ میں چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ٹوٹے گا تو روزے کے دوران غسل فرض کیسے ادا کیا جائے مہربانی فرما کر اس کا حل ارشاد فرمادیں۔

سائل: پرویز فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

روزے کے دوران شریعت کلی میں غرغره کر کے مبالغہ کرنے سے روکتی ہے کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے جبکہ غسل فرض کرتے ہوئے کلی میں حلق کے کنارے تک پانی بہانا فرض ہے اور یہ روزہ دار کے لیے بھی ضروری ہے اور یہاں تک پانی پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور اگر حلق تک نہ پہنچایا تو غسل ادا نہ ہوگا۔ اور جس کا روزہ نہ ہو اسے کلی میں غرغره کر کے مبالغہ کرنا سنت ہے۔ اور جہاں تک ناک میں پانی ڈالنے کا تعلق ہے۔ روزے کی حالت میں یا روزہ نہ ہونے کی حالت میں یعنی دونوں حالتوں میں دونوں نتھنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع ہونے تک پانی سے دھونا فرض ہے۔ ہاں روزہ دار اس سے اوپر تک نہ لے کر جائے کہ کہیں پانی دماغ کو نہ چڑھ جائے اور روزہ نہ ہو تو سخت ہڈی سے اوپر تک لے جانا بھی سنت ہے۔

کلی کرنے کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ آج کل بہت بے علم اس مضمضہ کے معنی صرف گُلی کے سمجھتے ہیں، کچھ پانی منہ میں لے کر اُگل دیتے ہیں کہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارہ تک نہیں پہنچتا، یوں غسل نہیں اُترتا، نہ اس غسل سے نماز ہوسکے نہ مسجد میں جانا جائز ہو بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے گالوں کی تہ میں دانتوں کی جڑ میں دانتوں کی کھڑکیوں میں حلق کے کنارے تک ہر پرزے پر پانی بہے یہاں تک کہ اگر کوئی سخت چیز کہ پانی کے بہنے کو روکے گی دانتوں کی جڑ یا کھڑکیوں وغیرہ میں حائل ہو تو لازم ہے کہ اُسے جُدا کر کے گُلی کرے ورنہ غسل نہ ہوگا، بالجملہ غسل میں ان احتیاطوں سے روزہ دار کو بھی چارہ نہیں ہاں غرغره اسے نہ چاہئے کہ کہیں پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ غیر روزہ دار کے لیے غرغره سنت ہے۔ اور درمختار میں ہے: سنتہ المبالغة بالغرغرة لغير الصائم لاحتمال الفساد وضو و غسل میں غرغره کر کے مبالغہ سنت ہے اس کے لئے جو روزہ دار نہ ہو، روزہ دار کے لئے نہیں کیونکہ اس میں روزہ جانے کا احتمال ہے۔ (الدر المختار کتاب الطہارت ۲۱/۱)

[فتاویٰ رضویہ ج ۱-۲ ص ۵۹۷]

غسل فرض ادا کرنے کے لیے ناک میں پانی دونوں نتھنوں کی پوری نرم جگہ تک بہانا فرض ہے جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ اور غسل

تو ہرگز اُترے ہی گانہیں [کلی میں] جب تک سارا منہ حلق کی حد تک اور سارا نرم بانسہ سخت ہڈی کے کنارہ تک پورا نہ دھل جائے۔ اس احتیاط سے بھی روزہ دار کو مفر نہیں، ہاں اس سے اوپر تک اُسے نہ چاہئے کہ کہیں پانی دماغ کو نہ چڑھ جائے غیر روزہ دار کے لئے یہ بھی سنت ہے درمختار میں ہے: سنتہ المبالغة بمجاوزة المارن لغير الصائم غیر روزہ دار کے لئے نرمہ سے اوپر پانی پہنچا کر مبالغہ سنت ہے۔ [الدر المختار کتاب الطہارۃ مطبع مجتبائی دہلی ۱ / ۲۱ / فتاویٰ رضویہ ج ۱۔ ۲ ص ۵۹۷]

اور ردالمحتار میں بحر الرائق سے نقل کیا گیا ہے: الاستنشاق اصطلاحاً ایصال الماء الى المارن، ولغة من النشق وهو جذب الماء ونحوه بريح الانف الى داخله۔ اصطلاح میں استنشاق کا معنی ناک کے نرم حصہ تک پانی پہنچانا۔ اور لغت میں یہ لفظ نشق سے لیا گیا ہے جس کا معنی پانی اور اس جیسی چیز کو سانس کے ذریعہ ناک کے اندر کھینچنا۔

(ردالمحتار کتاب الطہارۃ دار احیاء التراث العربی بیروت ۱ / ۷۸ و ۷۹)

اگر غسل کے دوران کلی کرتے یا ناک میں پانی ڈالتے وقت پانی پیٹ یا دماغ میں چلا گیا تو روزہ ضرور ٹوٹ جائے گا جیسا کہ بہار شریعت میں ہے کہ کلی کر رہا تھا بلا قصد پانی حلق سے اُتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا روزہ جاتا رہا، مگر جبکہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ قصداً ہو۔ [بہار شریعت ج ۱ حصہ ۵ مسئلہ ۱۱ ص ۹۸۷]

اور پرویز نام اچھا نہیں اسے بدل لیں

واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

An Islamic legal verdict with regards to rinsing the mouth and sniffing water into the nose while fasting

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Dīn and muftīs of the Sacred Law state regarding the following issue: Is it Fard to rinse the mouth and sniffle water into the nose intensely for Fard Ghusl. In other words, for water to reach the end limit of the throat in rinsing, and the upper part of the nose [in sniffing]. If this is so, then what should one do while fasting. If water reached the stomach or the brain, then will this invalidate the fast. If it does invalidate the fast, then how should one perform Fard Ghusl while fasting? Please kindly provide a solution to this query.

Questioner: Parvaiz from England

ANSWER:

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بقول المَلِكِ الوَهَّابِ اللهم هداية الحق والصواب

The Sharī'ah prevents one from doing anything excessive having gargled in the matter of rinsing during a fast due to the possibility of water going in (i.e. past the throat). Whereas, it is actually Fard to ensure that water reaches the edge of the throat when rinsing the mouth for Fard Ghusl, and this is also required for the one who is fasting as well. The fast will not become invalid from the water reaching this area of the throat, and if water does not reach it, then such Ghusl will not be valid. It is Sunnah for the one who is not fasting to gargle with exaggeration when rinsing the mouth. As far as sniffing water into the nose is concerned - whether fasting or not - i.e. in both cases, for water to reach and cleanse the soft part of the nose - in other words, the starting point of the hard bone - through both nostrils is Fard in Ghusl. Yes, the one who is fasting should not let water reach too high, to the point where there is a danger of it reaching the brain (and subsequently invalidating the fast). If one is not fasting, then for water to reach above the hard bone is Sunnah.

In relation to the rinsing of the mouth, my master A'lāHadrat, the Imām of the Ahl al-Sunnah, Imām Ahmad Ridā Khān, may the mercy of Allāh Almighty be upon him, says, 'In today's day & age, many unknowledgeable people misunderstand rinsing as the mere swirling of water in the mouth; they take some water into the mouth and swirl it around, while the water does not reach the root of the tongue and the end of the throat, thus the obligation of Ghusl not being performed. Neither is Salāh possible, nor entry into a masjid permissible with this so-called Ghusl. Rather, the Fard [obligation] is that water reaches

behind the molar teeth, the bottom of the inner cheeks, the roots (i.e. gums) of the teeth, the gaps between the teeth and every nook & cranny - until the edge of the throat. To the extent that if there is any hard thing which is a barrier that prevents water from reaching the roots (gums) of the teeth, the space between the teeth, or any other areas, then it is mandatory to remove such and then rinse the mouth, otherwise Ghusl will not be fulfilled.

In short, even a fasting person is not excluded from such precautionary measures in Ghusl. Yes, he should not gargle, as the water may go down the throat. Though, it is Sunnah for a non-fasting person to gargle.

It is stated in al-Durr al-Mukhtār,

"سنته المبالغة بالغرغرة لغير الصائم لاحتمال الفساد"

"It is Sunnah to intensely gargle in Wudū' & Ghusl for a non-fasting person, but not for a fasting person, due to the possibility of voiding the fast."

[al-Durr al-Mukhtār, volume 1, page 21]

[Fatāwā Ridawīyyah, volumes 1-2, page 597]

It is Fard for water to reach all of the soft bone in both nostrils in order to complete Fard Ghusl, just like my master A'lāHadrat, the Imām of the Ahl al-Sunnah, Imām Ahmad Ridā Khān, may the Most Merciful shower countless mercies upon him, states that, 'The obligation of Ghusl will not be lifted (in the case of rinsing the mouth) until water reaches & cleanses all parts of the mouth until the edge of the throat, as well as the soft bone until the starting point of the hard bone of the nose. A fasting person is not excused from this precaution either; yes, such a person should not take the water up too much, otherwise it may reach the brain. It is also Sunnah for a non-fasting person. It is stated in al-Durr al-Mukhtār,

"سنته المبالغة بمجاوزة المارن لغير الصائم"

"It is Sunnah for water to reach above (i.e. beyond) the soft bone of the nose with intensity for the non-fasting individual."

[al-Durr al-Mukhtār, volume 1, page 21]

[Fatāwā Ridawīyyah, volume 1-2, page 597]

It is stated in Radd al-Muhtār, having been quoted from al-Bahr al-Rā'iq,

"الاستنشاق اصطلاحاً إيصال الماء إلى المارن، ولغة من النشق وهو جذب الماء ونحوه بريح الأنف إلى داخله"

"The technical meaning of the term sniffing is that water reach the soft part of the nose, and from a linguistic perspective, it is derived from the word نشق - *nashq* - whose meaning is to draw water, etc up into the nose by breathing.

[Radd al-Muhtār, volume 1, page 78-79]

If, during Ghusl, water reaches the stomach while rinsing, or the brain while sniffing, then the fast will definitely become invalid. Just like it is stated in Bahār-e-Sharī'at that if one was rinsing the mouth and, without intent, water went down the throat, or if one was sniffing water into the nostrils and it reached the brain, this will render the fast void. Unless such person has forgotten that he is fasting; then in this case it will not nullify the fast, even if he did so intentionally.

[Bahār-e-Sharī'at, volume 1, part 5, page 987]

And Parvaiz is not a good name - it should be changed.

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Ali Mahmood